

الف۔ آپ کی فنانسنگ کی ضرورت:		
پروڈکٹ کا نام	HBL ریڈی کی کش	
فنانس کی رقم	_____ روپے	
مارک۔ اپ کی قسم (مقرر / متغیر)	مقرر	
ب۔ اس فنانسنگ کی تخمینی لاگت		
آپ سے کیا مارک۔ اپ چارج کیا جائے گا؟	رقم (روپے)	شرح
	_____ روپے	2.75% (ماہانہ شرح)
		33% (سالانہ شرح)
	مارک۔ اپ (روپے)	پروسیسنگ فیس (روپے)
آپ کو اور کون سے چارجز ادا کرنے ہوں گے؟	_____ روپے	پروسیسنگ فیس: 6,000 روپے یا 1.25% فنانسنگ کی رقم کی FED جو بھی زیادہ ہو (دستاویزی چارجز، تصدیق اور اسٹیپ ڈیوٹی سمیت)
	12 ماہ کے اختتام پر 5,000 روپے + FED سالانہ فیس جو آپ کی کم از کم واجب الادا رقم میں ظاہر ہوگی	
	2,500 روپے + FED لمٹ بڑھانے کی فیس لمٹ میں اضافے کی وقت چارج ہوگی۔	
	برائچ بینکٹنگ کی چارجز:	چیک بک کا 15 روپے فی چیک چیک بک اسٹاپ ہیمینٹ: 500 روپے چیک بک لوڈ چیک: 0 روپے
آپ کو اور کون سے چارجز ادا کرنے ہوں گے؟	نوٹ: براہ مہربانی نوٹ فرمائیں کہ دیگر تمام بینک چارجز (اگر قابل اطلاق ہوں) بینک کے چارجز کے اپ ڈیٹڈ شیڈول آف بینک چارجز (SOBC) کے مطابق وصول کئے جائیں گے۔ اسے HBL کی ویب سائٹ http://www.hbl.com/resources/schedule-of-bankcharges پر بھی دیکھا جاسکتا ہے۔	
	کم از کم ماہانہ ادائیگی کا بریک۔ اپ:	
	آپ کی کم از کم ماہانہ ادائیگی درج ذیل پر مشتمل ہے:	
	- آپ کی اصل ادائیگی کا 2% - ماہانہ مارک۔ اپ - بینک کے چارجز۔ بشمول ون ٹائم پروسیسنگ فیس، سالانہ ریٹیل فیس، لمٹ بڑھانے کی فیس، تاخیر سے ادائیگی کے چارجز (اگر کوئی ہوں) اور - گذشتہ ماہ کا بیلنس، اگر کوئی ہے۔	
ج۔ قبل از وقت ادائیگی:	نوٹ: ان رقم کو ریپیمنٹ اکاؤنٹ میں جمع کرانے کی ضرورت ہے (جیسا کہ ماہانہ بل میں ذکر کیا گیا ہے)؛ اگر ریپیمنٹ اکاؤنٹ کم از کم واجب الادا رقم کو مکمل طور پر پورا نہیں کر سکتا؛ اسے بزنس اکاؤنٹ سے کاٹ لیا جائے گا۔	
	قبل از وقت ادائیگی:	
	کیا آپ کسی بھی وقت لمٹ کی ادائیگی کر سکتے / سکتی ہیں؟	
	ہاں	
د۔ ڈیفالٹ / تاخیر سے ادائیگی کی معلومات:	آپ لمٹ کی ادائیگی کیسے کر سکتے / سکتی ہیں؟	
	بس مطلوبہ رقم اپنے نامزد کردہ ریپیمنٹ اکاؤنٹ میں کسی بھی وقت جمع کریں۔	
	کیا آپ کو ترض / فنانس کی قبل از ادائیگی / قبل از رینائرمنٹ کے لئے اضافی رقم / چارجز ادا کرنے ہوں گے؟	
	قبل از وقت ادائیگی یا سہولت کی قبل از وقت رینائرمنٹ کے کوئی چارجز نہیں۔	
وقت پر ادائیگی نہ کرنے پر آپ سے کیا جرمانہ وصول کیا جائے گا؟	اگر آپ HBL پر ڈی کی کش ماہانہ انٹیسنٹ کی مقررہ تاریخ (یعنی ہر مہینے کی 20 تاریخ) کے اندر کم از کم واجب الادا رقم موصول نہیں ہوتی، تو بقیہ رقم پر مارک۔ اپ وصول کیا جائے گا اور تاخیر سے ادائیگی کے چارجز ہر مہینے کی 21 تاریخ کو لاگو ہوں گے۔	
	اس کے علاوہ، براہ مہربانی نوٹ فرمائیں کہ اگر کسٹمر یا قاعدہ مدت کے لئے ماہانہ کم از کم واجب الادا رقم ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو کسٹمر کو ریڈیٹ پیرو میں رپورٹ کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں سہولت کی لمٹ کو محدود / معطل کر دیا جائے گا۔	
	یہ آپ کو مطلع کرنے کے لیے ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) eCIB میں منفی / زائد لمعیا معلومات کی دوسال کی تاریخ شامل کرے گا (بشمول واجب الادا ادائیگیاں، Write-off یا مارک۔ اپ کی تبدیلی وغیرہ)۔ لہذا، آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی کم از کم ادائیگی کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنائیں تاکہ آپ کے eCIB پر کسی بھی منفی معلومات کی اطلاع یا عکاسی نہ ہو۔	
	تخیر سے ادائیگی کے چارجز کی گنتی کا طریقہ	
کیا بینک Set-off کا حق استعمال کر سکتا ہے؟	لیٹ ہیمینٹ چارجز (LPC) ہر مہینے کی 21 تاریخ کو وصول کئے جائیں گے	
	بینک کو اس سہولت کو منسوخ کرنے کا حق حاصل ہے اور اسے فنانسنگ اکاؤنٹس میں کسی بھی بھٹایا بیلنس کے مقابلے میں کمزور کے ڈپوٹ اکاؤنٹس میں کسی بھی کریڈٹ بیلنس کو Set-off کرنے کا حق حاصل ہے۔	
	تخیر سے ادائیگی کے چارجز کی گنتی کا طریقہ	
	مقررہ چارجز	
ہ۔ دیگر ماڈی معلومات:	لیٹ ہیمینٹ چارجز (LPC) ہر مہینے کی 21 تاریخ کو وصول کئے جائیں گے	
	1,250 روپے + FED (فی ماہ)	
	مقررہ چارجز	
	مقررہ چارجز	
قرض لینے والے / ادائی کی موت واقع ہونے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟	موت واقع ہونے کی صورت میں، بھٹایا رقم بینک کے منظور شدہ ہیتل پر انشورنس کمپنی کے ذریعے لوہی جائے گی۔	
	N/A	
	ضامن کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟	
	ویکم لیئر پروڈکٹ Key Fact Sheet: اینٹینسٹ، شرانکا وضوابط، ڈیٹ کاڈ، چیک بک (کسٹمر کی درخواست پر)، NOC (کسٹمر کی درخواست پر)	
آپ کو کیا دستاویزات فراہم کی جائیں گی؟	مزید معاوضہ کے لئے، براہ مہربانی ہماری 24/7 کلائنٹ سٹیمپ سروس سے HBL-111-111 (111-425) پر رابطہ کریں، ای میل: customer.care@hbl.com ، ہیڈ آفس کا پتہ: 9th فلور، کمپلینٹ ریزولوشن یونٹ، انگیس بلڈنگ، آئی آئی چندر برگر روڈ، کراچی۔	
	آپ معاوضہ اور مشاورت کہاں سے حاصل کر سکتے / سکتی ہیں؟	
	آپ معاوضہ اور مشاورت کہاں سے حاصل کر سکتے / سکتی ہیں؟	
	آپ معاوضہ اور مشاورت کہاں سے حاصل کر سکتے / سکتی ہیں؟	

کسٹمرز کے دستخط اور تاریخ

مجاز بینکر کے دستخط، اسامیپ اور تاریخ

میں/ ہم بذریعہ ہذا اقرار و توثیق کرتا ہوں / کرتے ہیں کہ (a) HBL ReadyCash کے زیر ماتحت Key Fact Sheet کی وصولی (جسے بعد میں "KFS" کہا جاتا ہے)، (b) KFS کو بطور پڑھ اور سمجھا گیا: (c) KFS پر میری/ ہماری جانب سے HBL ReadyCash کے تحت

شرانکا وضوابط کی قبولیت کے بعد دستخط کئے گئے ہیں۔

بینک چارجز شیڈول آف بینک چارجز کے مطابق ہوتے ہیں، جس میں وقتاً فوقتاً ترمیم کی جاتی ہیں۔